

## تجوید ٹپ - 29

✓ جس طرح کھلاڑی لوگ روزانہ جسم کی ورزش اور کھیلنے کی مشق کرتے ہیں، اس طرح آپ کو اپنی آواز کے لیے بھی مشقیں کرنی ہوں گی، جن کا ہم اب تک ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضرور اس میں بہتری آئے گی۔

### کلر کوڈنگ



أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

ط 5 مَا الْحُطْمَةُ

أَذْرَبُكَ

وَمَا

ط	ح، ط	أ كوصاف پڑھیے، ر	و
ہ پڑھیں گے رکتے وقت	موٹا اور اونچا: ط	موٹا: ز مد: ز	مد منفصل: مآ

آو تجوید سیکھیں - آسان طریقے سے  
برائے ویڈیو سبق-29b: پریکٹس سُورَةُ الْهُمَزَةِ 9-5

توجہ دیجیے پہلی لائن کے مخارج پر اور دوسری لائن کے صفات و قواعد پر۔

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
نَارُ      اللّٰهُ      المُّوقَدَةُ 6

ق				
فم مد: نَا	موثا: رُ	موثا لام جلالہ	واؤمد	اونچا: ق
ہ پڑھیں گے رکتے وقت				

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
الَّتِي      تَطَّلِعُ      عَلَى      الْأَفِيدَةِ 7

لُ	ط، ع	ع	أ، ء کو صاف پڑھیے
ی مد: تینی	موثا اور اونچا: ط		ہ پڑھیں گے رکتے وقت

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
إِنَّهَا      عَلَيْهِمْ      مُؤَصَّدَةٌ 8

غنة: نَ	فم مد: هَا	نرمی: نَي	ص، وُ کو صاف پڑھیے
			ہ پڑھیں گے رکتے وقت

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
فِي      عَمَدٍ      مُمَدَّدَةٍ 9

ع	ع		
ی مد: فنی		غنة: مَ	ہ پڑھیں گے رکتے وقت